



”اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ”اللہ کے نبی ﷺ جب صبح اور شام کرتے، تو ان دعاؤں کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے: ”اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں“ اور اللہ! میں تجھ سے اپنے دین و دنیا، اہل و عیال اور مال میں عافیت طلب کرتا ہوں“ اور اللہ! میری شرم گاہ کی ستر پوشی فرما، مجھے خوف و خطرات سے مامون و محفوظ رکھ۔ اللہ! میری حفاظت فرما آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اچانک اپنے نیچے سے اچک لیا جاؤں“

[صحیح] [اسے ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑتے تھے: (اللهم إني أسألك العافية) اللہ! میں تجھ سے، برائیوں، بلاؤں، دنیوی مشکلات، شہوتوں اور دینی فتنوں سے تیری عافیت اور سلامتی کا سوالی ہوں (في الدنيا والآخرة) دنیوی ہوں کہ اخروی، جلدی آنے والی ہوں یا تاخیر سے (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي) اللہ! میں تجھ سے عفو و درگزر اور عیوب سے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، خواہ عیوب دین سے متعلق ہوں، جیسے شرک، بدعت اور دیگر معاصی، یا دنیا سے متعلق ہوں، جیسے مصائب، اذیتیں اور شرور و فتن، یا اہل و عیال سے متعلق ہوں، جیسے بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے متعلق، یا پھر مال اور عمل سے متعلق ہوں ”اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي - أَوْ: عَوْرَاتِي - وَأَمِنْ رَوْعَاتِي“ اللہ! میرے عیوب، کمیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے اور میرے گناہ مٹا دے مجھے خوف و خطر سے محفوظ رکھے ”اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ قَوْعِي“ اللہ میری حفاظت فرما اور تمام تکلیف دہ چیزوں اور بلاؤں و مصیبتوں کو مجھ سے دور رکھے تمام جہات سے میری حفاظت فرما کیوں کہ مصیبتیں اور آفتیں مذکورہ جہات سے آتی ہیں ”وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي“ میں اس بات سے تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے کی جانب سے اچانک میرا مؤاخذہ ہو جائے اور غفلت کی حالت میں ہلاک ہو جاؤں پھر زمین میں دھنسا دیا جاؤں

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/5485>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

